



## سوال

سورة الملك مسلمان كو عذاب قبر سے بچاتی ہے لیکن اسے کتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، دن میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنی چاہیے؟

## جواب

الحمد لله

الوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قرآن مجید میں ایک ایسی سورۃ ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملك ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر (2891) سنن ابوداؤد حدیث نمبر (1400) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (3786)۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ (277/22) میں اور محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابن ماجہ (حدیث نمبر 3053) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ انسان اس سورۃ کو ہر رات پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور اس میں پائی جانے والی اخبار پر ایمان لائے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملك پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا، ہم اس سورۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں المانعہ بچاؤ کرنے والی سورۃ کہتے تھے، کتاب اللہ میں یہ ایسی سورۃ ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت بھلا اور زیادہ کام کیا۔

سنن النسائی (179/6) الترغیب والترہیب 1475 میں علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کہا ہے۔

مستقل فتاویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے کہ:

تو اس بنا پر یہ امید رکھی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی اس سورۃ پر ایمان رکھے اور اسے پڑھے گا اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ سورۃ شفاعت کرے گی۔ فتاویٰ البینۃ الدائمۃ (335-334/4)۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔